

مزارعت کی شرعی حیثیت

محمد طاسین

(۱)

مزارعت کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ معاملہ شریعت اسلامیہ کی رو سے بنیادی طور پر ایک جائز اور مشروع معاملہ ہے یا ناجائز اور منوع معاملہ؟ زیر نظر مضمون کا مقصود، اسی مسئلہ سے بحث کرنا اور علمی و تحقیقی انداز سے اس کے مالھا و ماعلیہ کو نکھارنا اور سامنے لانا ہے۔

سباحت کی ترتیب یہ رہے گی: مزارعت کی لغوی تحقیق، مزارعت کی عرفی حقیقت، مزارعت کی فقہی تعریف، مزارعت کی شرعی حیثیت قرآن حکیم کی روشنی میں، احادیث نبویہ کی روشنی میں، آثار صحابہ و تابعین کی روشنی میں، آئمہ مجتهدین کے اقوال کی روشنی میں عقلی و قیاسی دلائل کی روشنی میں اور آخر میں مزارعت اپنے عملی اثرات و نتائج کی روشنی میں۔

چونکہ یہ مسئلہ صدیوں سے ایک نزاعی و اختلافی مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس پر موافق و مخالف بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، متفرق مضامین کی شکل میں یہی اور مستقل کتابوں اور کتابچوں کی شکل میں یہی، لہذا ہیری یہ کوشش ہوگی کہ بحث اس انداز سے کی جائے کہ اختلاف دور ہو سکے اور حقیقت حال زیادہ سے زیادہ واضح ہو کر سامنے آئے، بنابریں اس مضمون کا طویل ہوجانا ایک لازمی امر ہے، امید کہ قارئین کرام صبر و تحمل سے کام لیں گے اور پورے مضمون کو پڑھنے کے بعد کوئی رائے قائم فرمائیں گے!

مزارعت کی لغوی تحقیق :

لفظ مزارعت، ثالثی مزیدفیہ کے باب مفافعہ کا مصدر ہے اور اس کا

مادہ مجرد یا زراعت ہے جس کے معنی زمین کو بونے اور کاشت کرنے کے ہیں یعنی کاشت کاری، یا زرع ہے جو تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے: اول انبات بمعنی اگانا، دوم طرح البذر فی الارض، بمعنی زمین میں تخم ریزی کرنا اور بیج ڈالنا، سوم نبات کل شیء۔ معنی، ہر شے کی اگی ہوئی کھیتی، چنانچہ جب لفظ زرع کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا اس وقت پہلا معنی مراد ہوتا ہے یعنی اگانا، کیونکہ کسی شے کو اگانا صرف اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور جب اس کی نسبت انسان کی طرف ہو تو دوسرا معنی مراد ہوتا ہے یعنی تخم ریزی کرنا اور بیج ڈالنا، کیونکہ یہ کام انسان ہی کرتا ہے، اور جب اس کی جمع زروع ہو تو اس سے مراد تیسرا معنی ہوتا ہے یعنی اگی ہوئی کھیتی، کیونکہ وہ مختلف اور متعدد چیزوں کی ہوتی ہے مثلاً گیہوں کی، جو کی اور دھان وغیرہ کی کھیتی، پھر غور سے دیکھا جائے تو ان تین معنوں کے درمیان سبب و مسبب کا تعلق ہے اور ایک کے سبب سے دوسرا وجود میں آتا ہے مثلاً تخم ریزی سبب ہے کھیتی اگنے کا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فعل اگانا سبب ہے نباتات کے پیدا ہونے کا، پھر چونکہ باب مفہوم کی خاصیت، مشارکت ہے لہذا مزارعت کے معنے ہوئے زراعت یا زرع میں دو شخصیتوں کا شرکت کرنا اور شریک ہونا، اور ظاہر ہے کہ مالک زمین اور کاشت کار کے درمیان جو معاملہ طے پاتا ہے وہ زراعت میں اشتراک کا معاملہ ہوتا ہے۔

عربی زبان میں مزارعت کے مترادف اور ہم معنی الفاظ چند اور بھی ہیں جیسے مخابرة، الخبر، محاکلة، مؤاکرہ اور القراح لیکن مخابره ان میں سے زیادہ معروف اور کشیر الاستعمال ہے بلکہ مدینہ میں مزارعت کی بجائے مخابرة کا استعمال عام تھا، یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے اس کو لفت اہل مدینہ لکھا ہے، لہذا مناسب ہے کہ لفظ مخابره اور محاکله کی بھی کچھ تشریح پیش کی جائے کیونکہ احادیث نبویہ میں یہ دونوں لفظ زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔

مخابرہ کی تشریع :

مخابرہ بھی مزارعت کی طرح باب معاملہ کا مصدر ہے جس کا مادہ مجرد یا خیر ہے جس کے معنی کھیتی اور کاشتکاری کے ہیں، یا خبرہ ہے جس کے معنی حصة و بخرا ہیں، یا خبار بعض نرم زمین ہے، یا الخبر بعض اگی ہوئی کھیتی ہے، غور سے دیکھا جائے تو یہ سب معنی اس معاملہ میں مشارکت کے ساتھ پائی جاتی ہیں جو مالک زمین اور کاشتکار کے مابین طے پاتا ہے، اکثر علماء عربیت کے نزدیک مزارعت اور مخابرہ میں کچھ فرق نہیں دونوں ہر لحاظ سے ایک ہیں البتہ بعض کے نزدیک صرف اتنا فرق ہے کہ اگر تخم مالک زمین کی طرف سے ہو تو مخابرہ ورنہ مزارعت ہے، بعض اہل لغت سے یہ بھی منقول ہے کہ مخابرہ نام ہے اس معاملہ کا جو فتح خیر کے بعد مسلمانوں اور یہود خیر کے دریان طے پایا تھا، اس قول کے مطابق مخابرہ، لفظ خیر سے مشتق ہے لیکن یہ قول ضعیف ہے،

محاقله کی تشریع :

محاقله بھی باب معاملہ کا مصدر ہے اس کا اصل مادہ حقل بعض سرسبز کھیتی ہے یا حقل بعض کھیت اور زرعی زمین ہے، جو معاملہ مالک زمین اور کاشتکار کے دریان پیداوار کے حصول پر طے پاتا ہے چونکہ اس کی بنیاد کھیت اور کھیت پر ہوتی ہے، لہذا اس کو محاقلت سے تعبیر کرنا حقیقت حال کی صحیح تعبیر ہے، محاقلت کے مصدق کے متعلق آئندہ لغت کے دریان اختلاف ہے بعض کے نزدیک جو معاملہ مزارعت کا مصدق ہے وہی محاقلت کا بھی مصدق ہے لہذا دونوں مترادف ہیں، یہی قول آئندہ مجتہدین میں سے امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کا ہے جیسا کہ المبسوط للسرخسی (ص ۱۵ - ج ۲۳) اور کتاب الام للشافعی (ص ۱۰۱ - ج ۷) میں اس کی تصریح کی گئی ہے، اور بعض کے نزدیک محاقلت عام اور مزارعت خاص ہے۔ محاقلت کا اطلاق

جس طرح مزارعت پر ہوتا ہے اس طرح تین دوسرے معاملات پر بھی ہوتا ہے، ایک یہ کہ گیہوں کو زمین کے بدلے کرائے پر لینا دینا، دوم یہ کہ پتکے اور تیار ہونے سے پہلے کھیتی کو فروخت کر دینا، سوم یہ کہ جو گیہوں بالی اور خوشی کے اندر ہوں ان کو صاف گیہوں کے عوض اندازے سے بیج ڈالنا، بعض احادیث سے بھی محاقلت کے یہ معنے مفہوم ہوتے ہیں ۔

مزارعت کی عرفی حقیقت :

ظهور اسلام کے وقت نہ صرف یہ کہ عرب میں بلکہ پوری دنیا میں مزارعت کا عام رواج تھا لہذا ہر جگہ یہ معاملہ متعارف اور جانا پہچانا تھا، عملی طور پر گو اس کی مختلف شکلیں تھیں لیکن سب میں ایک چیز قدر مشترک تھی وہ یہ کہ مالک زمین بغیر کسی محنت و مشقت کے پیداوار کے ایک حصے کا حقدار قرار پاتا تھا اور یہ حصہ مختلف حالات میں مختلف ہوتا تھا، بعض حالات میں کاشتکار کے حصہ کے برابر بعض میں اس سے کم اور بعض میں اس سے زیادہ اس کمی و زیادتی کی وجہ یہ تھی کہ یہ معاملہ مختلف شکلؤں میں طریقے پاتا تھا مثلاً ایک شکل یہ کہ مالک زمین کی طرف سے صرف زمین ہوتی تھی اور باقی تمام چیزوں جیسے بیج، کھاد، هل، بیل اور محنت کاشتکار کی طرف سے ہوتی تھیں، دوسری شکل یہ کہ کاشتکار کی طرف سے صرف محنت و مشقت ہوتی تھی اور باقی سب اشیاء مالک زمین کی طرف سے ہوتی تھیں، تیسرا شکل یہ کہ مالک زمین کی طرف سے زمین اور بیج اور دیگر تمام اشیاء کسان کی طرف سے ہوتی تھیں، چوتھی شکل یہ کہ زمین اور بیل مالک کی طرف سے اور بقیہ تمام چیزوں کاشتکار کے ذمہ ہوتی تھیں، لہذا ضروری تھا کہ ان مختلف شکلؤں میں مقررہ حصوں کا تناسب مختلف ہو، چنانچہ دوسرے ممالک کی طرح عرب میں بھی یہ معاملہ مختلف شکلؤں میں رائج تھا روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض شکلؤں میں پیداوار کا نصف حصہ مالک زمین کا اور نصف

حصہ کاشتکار کا ہوتا تھا اور بعض میں ایک کا ایک ٹھائی اور دوسرے کا دو ٹھائی، بعض میں ایک کا ایک چوتھائی اور دوسرے کا تین چوتھائی ہوتا تھا اور کچھ شکلیں ایسی بھی تھیں کہ مالک زمین کے ایک اچھے حصے کی پیداوار اپنے لئے مخصوص کر لیتا تھا یعنی اس خاص حصے میں جو کچھ پیدا ہوگا وہ اس کا اور باقی کاشتکار کا ہوگا جیسے کنوبن کے ارد گرد یا نالیوں کے کنارے کی پیداوار اس کے لئے اور باقی حصے کی کاشتکار کے لئے ہوگی، بعض صورتوں میں مالک اپنے لئے مقرر حصہ کے ساتھ گندیاں وغیرہ لینا بھی طے کرتا تھا، اور بعض صورتوں میں یہ بھی طے پاتا تھا کہ کاشتکار، مالک زمین کو متعین مقدار میں غله یا نقدی ادا کرے گا، اور یہ کہ مزارعہ اور کراءہ الارض کی یہ مختلف اور متعدد شکلیں اسلام سے پہلے خود مدینہ منورہ میں پائی جاتی تھیں۔

مزارعہ کی فقہی تعریف :

واضح رہے کہ لفظ مزارعہ ان الفاظ میں سے نہیں جن کا ایک معنی و مفہوم اسلام سے پہلے مشہور تھا اور دوسرا اسلام نے تجویز کیا اور متعین کیا تھا جیسے صلوٰۃ، زکاء، اور صوم وغیرہ بلکہ مزارعہ ان الفاظ میں سے ہے جن کو اسلام نے ان کے سابقہ معنوں پر بعینہ برقرار رکھا اور اس کے متعلق اپنے احکام دئے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ علمائے شریعت اور فقہائے اسلام نے ان کے سابقہ معنوں پر بعینہ برقرار رکھا اور اس کے متعلق اپنے احکام دئے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ علمائے شریعت اور فقہائے اسلام نے کتب قہ میں مزارعہ کی جو تعریفیں پیش فرمائی ہیں ان کا مفہوم و مطلب بالکل وہی ہے جو عرف عام میں مشہور و معروف تھا، مثال کے طور پر چند تعریفیں ملاحظہ فرمائیجیے :

المزارعة هي عقد على الزرع بعض الخارج : مزارعہ نام ہے اس معاہدے

کا جو کھیتی کی پیداوار کے ایک حصہ پر طے پاتا ہے، یعنی جس کی بنیاد کھیت اور کھیتی ہوتی ہے اور جس میں ہر فریق کھیت سے پیدا ہونے والے غلہ وغیرہ کے بعض حصے کا حقدار قرار پاتا ہے، یہ تعریف فقه حنفی کی مشہور و مستند کتابوں میں بیان کی گئی ہے جیسے هدایۃ، بدائع الصنائع اور الاختیار وغیرہ میں فقه حنبیل کی مشہور کتاب المغنی لابن قدامہ میں مزارعۃ کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے :

مزارعۃ کی تعریف ہے دوسرے کو اس
معاہدے پر زمین دینا کہ وہ اس کو
بائی گا اور دیگر کام کرے گا اور
پیداوار دونوں کے درویان تقسیم
ہوگی۔

المزارعۃ دفع الارض الى من
يزرعها و عمل عليها والزرع
يبيهما ص ۵۸۱ - ج ۰

فقہ شافعی کی بنیادی کتاب جس کا نام الام للشافعی ہے اس میں مزارعۃ
مخابرات اور محاقلت کے متعلق لکھا ہے :

امام شافعی نے فرمایا جب ایک شخص دوسرے کو اپنی خالی زمین اس شرط پر دے کہ وہ دوسرا زمین کو کاشت کرے گا پھر جو کچھ اس سے اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا اس میں سے اس کاشت کرنے والے کو ایک حصہ ملے گا، تو اس معاملہ کا نام محاقلہ مخابرة اور مزارعۃ ہے۔

قال الشافعی اذا دفع الرجل الى
الرجل ارضًا يضاع على ان يزرع
عها المدفوعة اليه، فما اخرج
الله منها من شيئاً ثلمه منه جزء
من الاجراء فهذه المحاقلة و
المخابرة والمزارعۃ ص ۱۰۱ -
ج ۰

اس عبارت سے جہاں مزارعۃ کی تعریف ظاہر ہوتی ہے وہاں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک مزارعۃ مخابرات اور محاقلت تینوں ایک چیز نہیں۔

مزارعت کی شرعی حیثیت :

جیسا کہ اس مضمون کے عنوان سے ظاہر ہے کہ اس میں اصل مقصد، مزارعت کی شرعی حیثیت سے بحث کرنا اور یہ بتلانا ہے کہ شریعت اسلامی کی رو سے اس معاملے کا حکم کیا ہے بنیادی طور پر یہ جائز اور درست معاملہ ہے یا ناجائز و نادرست معاملہ؟ لیکن اس بحث و تحقیق کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شریعت اسلامی کے حقیقی مأخذ اور اصل سرچشمے یعنی قرآن حکیم کی طرف رجوع کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ وہ اس بارے میں کیا ہدایت اور روشنی دیتا ہے۔

مزارعت کی شرعی حیثیت قرآن حکیم کی روشنی میں :

اس بحث کے آغاز میں ایک اصولی بات کا جانتا نہایت ضروری ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے متعلق ہمارا یہ دعویٰ کہ وہ انسانی ہدایت کے لئے ایک جامع اور مکمل کتاب ہے اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اس میں حیات انسانی کے ہر ہر معاملہ سے متعلق جداگانہ طور پر جواز و عدم جواز کا حکم موجود ہے اور ہر معاملہ سے متعلق جداگانہ طور پر جواز و عدم جواز کا حکم مذکور ہے کیونکہ یہ بدآہتاً غلط اور خلاف عقل ہے اس لئے کہ حیات انسانی کے جزوی مسائل بے شمار اور لامتناہی ہیں، کوئی کتاب ان کا احاطہ نہیں کرسکتی خواہ وہ سینکڑوں جلدیوں ہی میں کیوں نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا اور یہی ہو بھی سکتا ہے کہ اس میں حیات انسانی کے ہرہر شعبہ سے متعلق ایسے اصولی اور کلی تصورات بتام و کمال موجود ہیں جن میں ہرہر جزوی مسئلہ کے لئے عمومی اور اجمالی ہدایت پائی جاتی ہے اور اہل نظر، غور و فکر کے ذریعے اس کو سمجھہ سکتے ہیں۔

اسی طرح قرآن حکیم کے متعلق ہمارا یہ دعویٰ کہ اس میں حیات انسانی کے ہرہر شعبہ سے متعلق اصولی و کلی تصورات بتام و کمال موجود ہیں جو

زندگی کے تمام جزوی مسائل پر حاوی ہیں اور جن سے ہر ہر جزوی مسئلہ کے لئے جزوی حکم اخذ کیا جاسکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں وہ اصول و کلیات مجرد اور مستقل شکل میں مذکور ہیں جس شکل میں وہ انسانوں کی تصنیف کردہ قانون وغیرہ کی کتابوں میں مذکور ہوتے ہیں - یعنی قرآن کریم میں وہ اصول و کلیات الگ اور ان کی جزوی مثالیں الگ نہیں بلکہ ان اصول و کلیات کو بعض مشہور و معروف جزویات کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے اس لئے کہ اصول و کلیات کو سمجھانے کا یہ طریقہ فطری اور عام فہم ہے اور اس میں بھٹکنے کا امکان کم ہے، اس طریقہ کی کچھ وضاحت یہ ہے کہ قرآن حکیم جب ایک نوع کے بہت سے جزوی مسائل کے لئے کوئی ایجادی یا استناعی حکم بیان کرنے نہ ہے تو ان میں سے ایک زیادہ مشہور اور جانے پہچانے جزوی مسئلہ کو ذکر کر کے اس کے متعلق جواز و عدم جواز کا وہ حکم دیتا ہے، گویا مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ جزوی مسئلہ جس کو تم خوب جانتے پہچانتے ہو جو حکم اس کا ہے وہی ہر اس دوسرے مسئلہ کا ہے جو نوعیت میں اس جزوی مسئلہ سے ملتا جلتا ہو یعنی جو اپنی حقیقت و ماہیت، روح اور غرض اور اپنے اثرات و نتائج کے لحاظ سے جانے پہچانے مسئلہ کے مسائل اور مشابہ ہو، لہذا وہ اس طریقہ سے انسانی عقل کے لئے غور و فکر اور قیاس و اجتہاد کا وسیع میدان فراہم کرتا ہے، اس طریقہ میں غلطی کا امکان اس لئے کم ہوتا ہے کہ اس میں ایک معلوم کے ذریعہ دوسرے مجہول کا علم حاصل کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ طریقہ مانوس اور عام فہم بھی ہے اس لئے کہ ہر انسان اپنی زندگی کے امور میں کسی نہ کسی حد تک اس سے ضرور کام لیتا ہے -

مزارعت اور قرآن مجید :

معاملہ مزارعت کے بارے میں جب ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کرتے

ہیں تو اس میں جزوی صراحة کے ساتھ ایسی کوئی نص نہیں ملتی جن سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ یہ معاملہ جائز ہے۔ یا ناجائز، البتہ اس میں عام معاشی معاملات کے جواز و عدم جواز سے متعلق ایک اصولی اور کلی تصور ضرور ملتا ہے جس سے ایک معاملے کی شرعی حیثیت پر بھی اجمالی روشنی پڑتی ہے اور غور کرنے سے اس کا حکم معلوم ہوجاتا ہے، اور وہ اصولی و کلی تصور یہ ہے:

کہ وہ تمام معاشی معاملات حلال اور جائز ہیں جو اپنی ماهیت و حقیقت اپنی روح و غرض اور اپنے اثرات و نتائج کے لحاظ سے معاملہ بیع سے ملتے جلتے ہیں، اور وہ جملہ معاشی معاملات حرام اور ناجائز ہیں جو اپنی بناؤٹ اور ساخت اور اپنے اثرات و نتائج میں معاملہ ریوا کے مثالیں ہیں۔

اور یہ تصور قرآن حکیم کی آیت احل الله البیع و حرم الربوا، میں مذکورہ بالا اسلوب سے بیان کیا گیا ہے، اس آیت میں اگرچہ بظاہر معاملہ بیع کے حلال اور معاملہ ریوا کے حرام ہونے کا شرعی حکم ہے لیکن حلال و جائز ہونے کا حکم معاملہ بیع کے ساتھ اور حرام و ناجائز ہونے کا حکم معاملہ ریوا کے ساتھ مختص نہیں بلکہ ہر اس معاملہ کے لئے عام ہے جو معاملہ بیع اور معاملہ ریوا کے مثالیں اور مشابہ ہو اور اس میں وہ علت پائی جاتی ہو جس کی وجہ سے معاملہ بیع کو حلال اور معاملہ ریوا کو حرام قرار دیا گیا ہے،

معاملہ بیع کی حقیقت و ماهیت :

معاملہ بیع کی عرفی حقیقت جس کو کاروینار سے تعلق رکھتے والا ہر شخص جانتا ہے یہ ہے کہ ایک تاجر اپنے سرمایہ کے بدلے کچھ تجارتی اشیاء خریدتا اور پھر منافع کے ساتھ ان کو بچنے کی کوشش کرتا ہے گویا وہ اپنے سرمایہ کے ساتھ دماغی و جسمانی محنت کرکے نفع کماتا ہے اس کی دماغی محنت وہ ہوتی ہے جو وہ کوئی چیز خریدنے سے پہلے یہ سوچنے میں صرف کرتا

ہے کہ اس کو کیا چیز کہاں سے خریدنی اور کہاں بیچنی چاہئے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہو، اور جسمانی محنت وہ ہوتی ہے جو ایک چیز کو ایک جگہ سے خریدنے اور دوسری جگہ منتقل کرنے میں برداشت کرتا ہے، لہذا اس معاملے میں تاجر کو اپنے اصل سرمائی پر بطور نفع جو جو زائد مال ملتا ہے اس کے عوض تاجر کی طرف سے دماغی و جسمانی محنت و مشقت موجود ہوتی ہے جو پیدائش دولت کا ایک مسلمہ عامل اور مستقہ سبب ہے یعنی جس کے عامل پیداوار ہونے پر، اسلام، سرمایہ داری اور اشتراکیت تینوں سبق ہیں جیکہ سرمائی کے عامل پیداوار ہونے نہ ہونے میں ان کا اختلاف ہے، لہذا معاملہ بیع و شراء میں ایک تاجر کو اپنے اصل سرمائی پر بطور منافع جو زائد مال ملتا ہے وہ چونکہ اس کی محنت و کاوش سے پیدا شدہ ہوتا ہے لہذا اس کا حق ہوتا ہے، گویا وہ اپنا جائز حق لیتا ہے بنابریں قرآن حکیم نے اس کو حلال اور جائز ٹھہرا�ا ہے۔

معاملہ بیع کی اس مذکورہ حقیقت کے پیش نظر ہر وہ معاشی معاملہ اس کے مسائل اور مشابہ قرار پاتا ہے جس میں نفع کے عوض، نفع حاصل کرنے والے کی طرف سے کسی قسم کی مفید محنت و مشقت موجود ہوتی ہے۔

معاملہ ریوا کی حقیقت :

معاملہ ریوا اور سود کی حقیقت جو کاروباری حلقوں میں ایک عام اور جانی پہچانی چیز ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک فریق اپنا مال دوسرے کو بطور قرض دیتا ہے اور یہ شرط لگاتا ہے کہ مقرہ میعاد کے بعد یہ رقم خاص اضافے کے بعد ساتھ واپس کی جائے گی یا یہ کہ اس پر ماہوار یا سالانہ اتنی رقم مزید دینی پڑے گی ظاہر ہے کہ اس معاملہ میں ایک فریق کا اصل سرمایہ بھی اس کے حق میں محفوظ رہتا ہے اور وہ کسی بغیر نفع بخش محنت و مشقت کے اس پر منافع لینے کا بھی حقدار بنتا ہے۔ لہذا ہر وہ معاشی معاملہ،

معاملہ ریوا کے مشابہ اور مسائل قرار پاتا ہے جس میں ایک فریق بغیر کسی نفع آور محنت و مشقت کے، اور بغیر کوئی نقصان اور خسارہ برداشت کشے محض اس سرمائی کی بنا پر منافع کا حقدار ٹھہرتا ہے جو اس نے تحفظ کی ضمانت کے ساتھ دوسرے کو استعمال کے لئے دے رکھا ہوتا ہے۔

قرآن حکیم نے اس قسم کے معاملات کو جو حرام و ناجائز ٹھہرا�ا ہے تو غور سے دیکھا جائے تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ سرمائی کو کسی شکل میں بھی پیدائش دولت کا عامل اور سبب نہیں تسلیم کرتا، کیونکہ حقیقت واقعہ کی رو سے یہ نظریہ بالکل غلط اور باطل ہے کہ محنت کی طرح سرمایہ بھی دولت کو پیدا کرتا ہے اس لئے کہ سرمایہ کسی شکل میں بھی کسی دولت کو پیدا نہیں کرتا، سرمایہ جب یونہی بیکار پڑا ہو یعنی کاروبار میں لگا ہوا نہ ہو تو یہ عام مشاہدہ ہے کہ کبھی بھی اس میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا بلکہ بہت سی شکلوں میں وہ وقت گزرنے کے ساتھ فرسودہ اور قدر و قیمت میں کم ہوتا چلا جاتا ہے مثلاً اگر سرمایہ نکلی اور سونے چاندی وغیرہ کی شکل میں ہو تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تجوری میں پڑے پڑے اس کی مقدار اور تعداد میں کچھ اضافہ ہو گیا ہو، اور اگر وہ سرمایہ حیوانات و نباتات اور ان سے بننے ہوئے مختلف قسم کے ساز و سامان کی شکل میں ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ پڑے پڑے نہ صرف یہ کہ اس میں کچھ زیادتی نہیں ہوتی بلکہ کچھ وقت کے بعد اس میں کمی واقع ہونی شروع ہوجاتی ہے اور پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اس کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی، اسی طرح سرمایہ جب کسی کاروبار میں لگا ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا، کاروبار میں منافع جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے وہ صرف دماغی و جسمانی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے البتہ بعض صورتوں میں سرمایہ جزوی یا کلی طور پر تحلیل ہوتا ہے اور اس سے اس کی مالیت میں جتنی کمی واقع ہوتی ہے اس کے مطابق محنت سے حاصل ہونے والی دولت میں اضافہ

سوجانا ہے، مثلاً ایک کاریگر کسی مشین کے ساتھ کام کر کے جو چیز پیدا کرتا ہے اس میں بیشین کا حصہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ گھسنے سے اس کی مالیت جس قدر کمی واقع ہوتی ہے اسی قدر پیدا شدہ مال میں اضافہ ہو جاتا ہے مثلاً اگر یوبیلے اس مشین کی قیمت میں گھسنے سے پانچ روپے کی کمی ہوتی ہے تو حاصل ہونے والے دس روپے کے مال میں پانچ روپے کاریگر کی محنت سے پیدا ہوئے اور ان کے ساتھ پانچ روپے وہ شامل ہو گئے جو گھسنے سے مشین کی قیمت میں کم ہوئے لہذا یہ سمجھنا ایک دھوکہ اور بڑا مغالطہ ہے کہ محنت کی طرح سرمایہ بھی دولت کو پیدا کرتا ہے، بہر حال یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ صرف محنت ہی دولت کو پیدا کرتی ہے اور سرمایہ کسی شکل میں میں بھی دولت کو پیدا نہیں کرتا ریوا جیسے معاملات کا حرام و باطل ہوتا پأسانی سمجھ میں آجاتا ہے وہ اس طرح کہ اس قسم کے ریوی معاملات میں ایک فریق اپنے اصل سرمائی پر جو زائد مال لیتا ہے چونکہ اس کے بدلے میں اس کی طرف سے کوئی قابل لحاظ دماغی و جسمانی محنت و مشقت نہیں ہوتی اور نہ اس کو اس کے سرمایہ نے پیدا کیا ہوتا ہے لہذا وہ اس کا حقدار نہیں ہوتا، چنانچہ وہ جو کچھ زائد لیتا ہے وہ دوسرے فریق کا حق لیتا ہے لہذا وہ ظلم و حق تلفی کا ارتکاب کرتا ہے جو حرام و ناجائز ہے، گویا ظلم و حق تلفی کا عنصر سودی معاملات کی مانیت میں داخل ہوتا ہے لہذا قرآن حکیم نے ان کو حرام و باطل قرار دیا ہے،

علاوه ازین قرآن حکیم نے معاملات کی صحت کے لئے تراضی فریقین کو

شرط نہمہ رایا ہے فرمایا :

اے مسلمانوں تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل و ناحق طریقہ سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تجارت کے طریقہ سے اور باہمی رضامنندی سے ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ
كُلِّمَ يَنْكِمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونْ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ -

یہاں قوائی آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ باہمی معاملات کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ فریقین کی حقیقی رضامندی موجود ہو، اسی مفہوم کو ایک حدیث نبوی میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے فرمایا : ۱

لَا يُحِلُّ مَالُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبٍ نَفْسِهِ - کسی مسلمان کا مال لینا حلال اور جائز نہیں مگر یہ کہ وہ خود خوشدلی سے دے۔

اور چونکہ معاملہ بیع و شراء میں فریقین کی حقیقی رضامندی پائی جاتی ہے خریدنے اور فروخت کرنے والا دونوں اپنی مرضی اور خوشی سے یہ معاملہ کرتے ہیں اس لئے کہ اس میں ہر ایک کو اپنی چیز کے بدلے دوسری چیز ملتی ہے جو اس کی رضا و خوشی کی دلیل ہوتی ہے لہذا قرآن حکیم نے اس معاملہ کو حلال اور جائز قرار دیا ہے، بخلاف معاملہ ریوا اور سود کے کہ اس میں ایک فریق یعنی سود لینے والا تو اپنی مرضی و خوشی سے شریک ہوتا ہے کیونکہ اس میں اس کا اصل مال بھی اس کے لئے محفوظ رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بطور سود کچھ زائد بھی ملتا ہے لیکن دوسرا فریق جو سود دیتا ہے حقیقی رضامندی کے ساتھ اس میں شریک نہیں ہوتا کیونکہ اس کے لئے اس چیز کا مادی معاوضہ موجود نہیں ہوتا جو وہ بطور سود ادا کرتا ہے، بلکہ اس مجبوری کے ساتھ شریک ہوتا ہے کہ اس کے پاس ضرورت کے مطابق اپنا سرمایہ موجود نہیں ہوتا، اس کی دلیل یہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت کے مطابق اپنا سرمایہ موجود ہو وہ دوسرے سے سود پر قرض کبھی نہیں لیتا لہذا معاملہ ریوا کو قرآن حکیم نے حرام و باطل ثہرا�ا ہے، گویا اس کے نزدیک ہر وہ معاشی معاملہ حرام و باطل ہے جس میں ایک فریق خوشی و رضا مندی سے اور دوسرا مجبوری سے شریک ہوتا ہے۔

اس کے بعد آئیجے یہ دیکھیں کہ معاملہ مزارعت، بیع کی قسم کے معاملات میں آتا ہے یا ریوا کی قسم کے معاملات میں، چنانچہ اس تعین کے لئے جب

ہم معاملہ مزارعت کا بغور جائزہ لیتے ہیں اور اس کی ماهیت کا تجزیہ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ معاملہ قطعی طور پر معاملہ ریوا کے مسائل و مشابہ نظر آتا ہے، وہ اس طرح کہ اس معاملہ میں بھی ایک فریق کا سرمایہ جو بصورت زرعی زمین ہوتا ہے بہرحال اس کے لئے محفوظ رہتا ہے یعنی معاملہ ختم ہونے پر وہ زمین جب مالک کی طرف لوٹتی ہے تو عام طور پر اس کی مالیت اتنی اور قیمت اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ معاملہ شروع کرتے وقت تھی مطلب یہ کہ زیر کاشت آنے سے زمین کی مالیت و قیمت میں کوئی خاص کمی واقع نہیں ہوتی جس طرح کہ ایک مکان، فرنیچر اور سہیں وغیرہ کی مالیت میں استعمال سے ہو جاتی ہے بلکہ بعض دفعہ زمین کی قیمت بڑھ جاتی ہے جب کاشتکار اس کو زیادہ محنت اور فنی مہارت سے آباد کرتا اور اس میں خوب کھاد وغیرہ ڈالتا ہے، اسی طرح اس معاملہ میں بھی ایک فریق یعنی زمین والا بغیر کسی مفید اور پیداوار محنت و مشقت کے پیداوار کے ایک حصہ کا مستحق قرار پاتا ہے، اور پھر ٹھیک اسی طریقے سے معاملہ مزارعت میں بھی ایک فریق یعنی کاشتکار، حقیقی رضامندی سے نہیں بلکہ اس مجبوری سے اس کو اختیار کرتا ہے کہ اس کے پاس ضرورت کے مطابق اپنی زمین نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ جس کے پاس اپنی کافی زمین موجود ہو وہ مزارعت پر دوسرے کی زمین کاشت کرنے کے لئے کبھی تیار نہیں ہوتا کیونکہ پہلی صورت میں اس کو پوری کی پوری پیداوار ملتی ہے اور دوسری صورت میں اسکا ایک حصہ ملتا ہے، اور کون ہے جو رضاۓ و خوشی کے ساتھ پوری کے مقابلہ میں ادھوری کو اختیار کرتا ہے، نیز اثرات و نتائج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان میں بھی معاملہ ریوا اور معاملہ مزارعت مسائل نظر آتے ہیں، سود خوار اور زمیندار چونکہ دونوں بلا محنت و مشقت کے کھاتے اور مال جمع کرتے ہیں لہذا دونوں کے اندر ایک طرح کی اخلاقی اور معاشرتی برائیاں ظہور میں آتی ہیں اور معاشرے کے توازن کو بگاڑتی ہیں، دراصل ان دونوں

معاملوں کا مزاج ایک ہے لہذا دونوں سے ایک ہی نوعیت کے کوافر و حالات ظہور پذیر ہوتے ہیں اور ایک ہی قسم کے اثرات و نتائج وجود میں آتے ہیں کیونکہ حرام خوری کی خاصیت ایک ہی ہے اور ایک ہی ہوسکتی ہے۔

غرضکہ ذرا بھی غور سے دیکھا جائے تو معاملہ مزارعت اپنی مانعیت، نوعیت اور خاصیت میں معاملہ ریوا کے مسائل و مشابہ نظر آتا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بعض احادیث نبویہ میں اس کو ریوا سے تعبیر کیا گیا ہے جو حقیقت حال کی نہایت سچی تعبیر ہے، وہ حدیث نبوی یہ ہے :

ابن ابی نعم سے روایت ہے کہا مجھ سے رافع بن خدیج نے حدیث بیان کی کہ اس نے ایک زمین کاشت کی، پس اس کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جب کہ وہ اس کو سینچ رہا تھا آپ نے پوچھا کس کی کھیتی ہے اور کس کی زمین؟ تو میں نے جواب دیا کہ کھیتی میرے بیچ اور عمل سے ہے پیداوار آدھی میری اور آدھی بنی فلاں کی ہوگی، اس پر حضور نے فرمایا تم دونوں ریوا میں مبتلا ہوئے، زمین اس کے مالکوں کو دے دو اور تمہارا جو خرچہ ہوا ہے ان سے لے لو۔

عن ابن ابی نعم قال حدثني رافع بن خدیج انه زرع ارضا فمر به النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقيها فسئلته، لمن الزرع ولمن الارض فقال زرعى بيدرى و عملى الشطر ولبني فلان الشطر فقال اريتما فرد الارض على اهلها وخذ نفقتك۔

ص ۱۲۷ - ج ۲ سنن ابی داؤد

اس حدیث میں اریتما کا جو لفظ ہے وہ صاف بتلارہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مزارعت کا معاملہ اور ریوا کا معاملہ ایک جیسے

ہیں اور دونوں کا ایک حکم ہے، اس چیز کی مزید وضاحت ایک اور حدیث نبوی ص سے بھی بہتر طور پر ہوتی ہے:

ابو الزیر نے حضرت جابر سے روایت کیا، کہا جب یہ آیت تازل ہوئی ”جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھٹھتے ہوتے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو شیطان کے چھوٹنے سے خبط ہو گیا ہو“، تو رسول اللہ صلعم نے فرمایا جو شخص مخابرت کو نہیں چھوڑتا اس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے (یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے)۔

عن ابی الزیر عن جابر بن عبد الله قال لما نزلت الذين يا كلون الربوا لا يقومن الا كما يقوم الذي يتخطه الشيطان من المس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يذر المخابرة فليذن بحرب من الله و رسوله - هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ص ۲۸۶ ج ۲ المستدرک للحاکم -

اس حدیث نبوی ص سے نہایت واضح اور قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرت و مزارعت کو ریوا کے مسائل قرار دیا ہے، اور یہ اس سیاق و سباق سے بھی ثابت ہوتا ہے جس میں آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، یعنی تعریم ریوا کی آیات کے نزول کے فوراً بعد، اور ان خاص الفاظ سے بھی ثابت ہوتا ہے جو آپ نے بطور تهدید استعمال فرمائے یعنی جو مخابرت کو چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہو اسے یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ میں مبتلا اور مشغول ہے، اور یہ تهدید و دھمکی بعینہ، وہی ہے جو قرآن مجید میں ان لوگوں کے لئے ہے جو سودی لین دین کو چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہوں سودخواروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنْ

پس اگر تم سودی کاروبار کو نہیں

الله و رسوله -
چھوڑتے تو اللہ اور اس کے ساتھ جنگ
کے لئے تیار ہو جاؤ۔

بتلائیس اس سے بڑھ کر ان دو معاملوں یعنی ربا اور مخابرت کے مابین مماثلت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے، یہاں سکن ہے کبھی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ مذکورہ حدیث مخابرت کے متعلق ہے مزارعت کے متعلق نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیچھے کسی قدر تفصیل کے ساتھ عرض کیا جا چکا ہے کہ مزارعت اور مخابرت دونوں ایک ہی معاملے کے دو نام ہیں لہذا یہ مترادف اور ہم معنے الفاظ ہیں اور یہ کہ مدینہ منورہ میں خصوصیت کے ساتھ مزارعت کی بجائے لفظ مخابرت کا استعمال عام تھا، علاوہ ازین بعض احادیث میں مخابرت کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ بعینہ، مزارعة کی حقیقت ہے، ذیل میں وہ حدیث ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے کہا
کہ منع فرمایا رسول اللہ صلعم نے
مخابره سے میں نے پوچھا، مخابره کیا
ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا زمین کا لینا
نصف پیداوار پر یا تھائی یا چوتھائی

عن زید بن ثابت قال نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن
المخابرة قلت ما المخابرة ؟ قال
ان تأخذ الأرض بنصف او ثلث
او ربع، ص ۱۲۷ - ج ۲ ابو داود

- پر -

ہو سکتا ہے مخابره کی یہ تعریف زید بن ثابت کے پوچھنے پر رسول اللہ صلعم نے بیان فرمائی ہو یا شاگرد کے پوچھنے پر حضرت زید بن ثابت نے بیان فرمائی ہو بہر حال دونوں صورتوں میں ہمارے لئے حجت و دلیل ہے۔

واضح رہے کہ میں نے ان صفحات میں معاشی معاملات کے جواز و عدم جواز سے متعلق قرآن حکیم کا اصولی اور کلی ضابطہ بیان کیا اور پھر اس کے تحت مزارعت کو ناجائز بتلایا ہے اس ضابطے کی رو سے بظاہر معاملہ مضابرت

بھی ناجائز معاملات کے تحت آجاتا ہے کیونکہ اس میں بھی ایک فریق حقیقی رضامندی سے نہیں بلکہ اس مجبوری کے تحت شریک ہوتا ہے کہ اس کے پاس کاروبار کے لئے اپنا سرمایہ موجود نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ مضارب اور ربا کے درمیان ایک خاص فرق ہے اور یہ وہ کہ مضارب میں سرمائیے والے کے لئے اس کے سرمائیے کے تحفظ کی ضمانت نہیں ہوتی جیکہ ریوا میں اس کی ضمانت ہوتی ہے چنانچہ مضارب میں اگر اصل سرمائیے میں نقصان و خسارہ واقع ہو جائے تو وہ تمام تر سرمائیے والے کو برداشت کرنا پڑتا ہے محت کرنے والا اس نقصان میں شریک نہیں ہوتا اور نعم ہو جائے تو ضروری اخراجات نکالنے کے بعد دونوں اس میں حصہ دار ٹھہرتے ہیں بخلاف ریوا کے کہ اس میں بھر حال سرمائیے والے کے لئے اس کا سرمایہ بھی محفوظ رہتا ہے اور اسی پر وہ بطور سود زائد شے کا بھی حقدار ٹھہرتا ہے، لہذا مضارب میں رب المال یعنی سرمائیے والا جس ایثار کے لئے آمادہ ہوتا ہے اس کے لئے سود خوار آبادہ نہیں ہوتا بنابریں مضارب کا وہ حکم نہیں جو ریوا کا ہے -

